

Press Release

November 29, 2017

ایس ای سی پی نے اکاؤنٹنگ اور آڈٹنگ کے شرعی معیارات عوامی مشاورت کے لئے جاری کردئے

اسلام آباد (نومبر 29) سیکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے اسلامی مالیاتی اداروں کی عالمی تنظیم کے اسلامی مالیاتی کمپنیوں کے لئے اکاؤنٹنگ اور آڈٹنگ کے تجویز کردہ شرعی معیارات کو تمام شراکت داروں اور عوامی مشاورت کے لئے جاری کر دیا ہے۔ مشاورت کے لئے جاری کئے گئے معیارات میں سکوک انوسٹمنٹ سے متعلقہ شریعہ معیار نمبر 17، ملکیت سے متعلق معیار نمبر 18 اور ایجنسی اور غیر منظور شدہ ایجنٹ کے کردار سے متعلق معیار نمبر 23 شامل ہیں۔

ایس ای سی پی ملک میں اسلامی مالیاتی معیشت کے فروغ اور اسلامی مالیاتی خدمات کی بہترین معیارات کے مطابق فراہمی کے لئے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ملک کے اسلامی مالیاتی اداروں میں بہترین کاروباری طریق کار اور معیارات کے فروغ کے لئے ایس ای سی پی آرگنائزیشن فار اسلامک فنانشل انسٹی ٹیوشنز کے متعین کردہ آڈٹ اور اکاؤنٹنگ کے معیارات کو مقامی حالات کے تناظر میں تسلسل کے ساتھ نافذ کر رہا ہے۔

اس سے پہلے بھی ایس ای سی پی نے بلترتیب، 2005، 2017، اور 2013 میں اسلامی مالیاتی اداروں کے لئے تین معیارات جاری کئے تھے جو کہ مراہمہ، اجراء اور نفع اور نقصان کی تقسیم سے متعلق تھے۔ جبکہ جنوری 2016 میں قرض دہندہ کی جانب سے قرض کی ادائیگی میں ناکامی، مراہمہ، اجراء اور مضاربہ سے متعلق چار مزید معیارات نافذ کئے گئے تھے۔

پاکستان کی اسلامی مالیاتی مارکیٹ میں شریعہ معیارات کی اہمیت کے پیش نظر، ایس ای سی پی کے شریعہ ایڈوائزری بورڈ نے مندرجہ بالا معیارات کو نافذ کرنے کی منظوری دی تھی۔ شریعہ بورڈ سے منظور کے بعد مذکورہ بالا معیارات کی کمیشن سے منظوری کے بعد عوامی مشاورت کے لئے جاری کر دیا گیا ہے۔